



PRESS RELEASE

For immediate release

March 20, 2020

SECP ask companies to divert CSR activities for COVID-19 prevention

ISLAMABAD, March 20: The SECP, as corporate sector regulator, advised all companies to divert their Corporate Social Responsibility (CSR) activities and budget for COVID-19 prevention, detection and cure including by generously contributing towards research and development activities related to the COVID-19.

SECP invites attention of companies' board of directors toward their social responsibilities, enshrined in Section 204 (2) of the Companies Act, 2017; "A director of a company shall act in good faith in order to promote the objects of the company for the benefit of its members as a whole, and in the best interests of the company, its employees the shareholders the community and for the protection of environment."

Since, the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) is threatening the global economies, it is high time for the corporates in Pakistan to rise to the occasion and address their responsibility. Companies are advised to take proactive measures to ensure effective contingency planning for financial and business continuity; mitigate health risks to employees, customers and communities. They should prevent premises from becoming a node of COVID-19 transmission and ensure that adequate plans and means are in place. They should also ensure alternative arrangements with suppliers and customers so that business operations can continue.

To achieve aforesaid purposes companies are encouraged to divert their CSR budgets for a timely and effective response to COVID-19 outbreak..

SECP also encourages companies and other related persons to consider their activities in light of their disclosure obligations under applicable laws to provide

investors with insight regarding their assessment of, and plans for addressing, material risks to their business and operations resulting from the coronavirus to the fullest extent practicable to keep investors and markets informed of material developments. In all circumstances, however, data quality and reporting accuracy and timeliness cannot be compromised.

ایس ای سی پی کی کمپنیوں کو سوشل رسپانس۔ سیلٹی فنڈز کو سب سے بچاؤ کے لئے مختص کرنے کی ہدایت

اسلام آباد (مارچ 20) سیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے تمام کمپنیوں اپنے کارپوریٹ رسپانس۔ سیلٹی کے بجٹ اور اس حوالے سے سرگرمیوں کو کرونا وائرس کو پھیلاؤ کو روکنے، مرض کی تشخیص، علاج معالجے اور تحقیق کے لئے مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔

ایس ای سی پی نے کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی توجہ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (2) 202 کی جانب مبذول کرائی ہے۔ قانون کی اس شق میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کا ڈائریکٹر، کمپنی کے تمام ممبران، ملازمین، شراکت داروں اور کمپنی کے کاروباری مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کے تحفظ کے لئے اچھی نیت کے ساتھ کوشش کرے گا۔

کرونا وائرس کی وباء نے دنیا بھر کے معیشت کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم وقت ہے کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر اور کاروباری شعبہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوا اور سماجی ذمہ داریاں بڑھ چڑھ کے ادا کرے۔ کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انے کاروبار اور مالی سرگرمیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لئے باقاعدہ منصوبہ بندی کریں، اپنے ملازمین، صارفین اور ارد گرد معاشرے کے تحفظ کے لئے بہترین اقدامات کریں۔ تمام کمپنیوں اس بات کا بھرپور انتظام کریں کہ اس کے احاطے میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ نہ ہو اور سلسلے میں تمام حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ کسی بھی ایمر جنسی کی صورت میں کاروبار، پیداوار اور سپلائی کا تسلسل جاری رکھنے کے لئے متبادل منصوبہ بندی بھی کریں۔

اس حوالے سے تمام کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارپوریٹ رسپانس۔ سیلٹی فنڈز اور سماجی فلاح و بہبود کے سرگرمیوں کو کرونا کے بچاؤ، تشخیص اور اس حوالے سے کی جانے والی تحقیق کے لئے وقف کریں۔